



## سوال

(1157) ماں کی کسی غلطی سے بچہ مر جائے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ماں اپنے بستر میں اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، صبح اٹھی تو بچی کو مردہ پایا، اور اسے اس کی وفات کا کوئی علم نہیں، اور بچی بھی صحیح سالم تھی، کوئی بیمار نہ تھی؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس ماں پر اس بارے میں کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ آدمی بنیادی طور پر "بری الذمہ" ہے۔ لیکن اگر ظن غالب ہو کہ بچی کی موت کا سبب اس کی ماں ہے، اور کوئی علامات و قرائن بھی موجود ہوں، تو کفارہ دینا راجح ہوگا، بالخصوص جب کوئی دوسرے لوگ اس پر دباؤ بھی ڈالتے ہوں تو احتیاطاً کفارہ دینا چاہیے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 809

محدث فتویٰ